

برائے فوری اجراء

بزرگ افراد کے لیے طویل مدتی نگہداشت کے کیمپس کے قیام میں برامپٹن بھرپور معاونت فراہم کرے گا

برامپٹن، آن (10 مارچ 2021) – سٹی کونسل نے عملہ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فلاور کمیونٹی کیمپس میں پانچ ایکڑ تک زمین کے حصول کے لیے لیز (لیزوں) کی کوششوں کا آغاز کریں تاکہ گولڈن ایچ ولیج فار دی ایڈلڈری ((GAVE، برامپٹن کے معمر افراد کے لیے طویل مدتی نگہداشت کی معاونت میں ایک خصوصی کیمپس کا قیام عمل میں لائے۔

نگہداشتی سہولت گاہ کا یہ کیمپس دو عمارتوں پر مشتمل ہو گا جس میں 160 بیڈز پر مشتمل ایک جدید کینر ہوم قائم کیا جائے گا اور سستی رہائشوں کے 140 یونٹ شامل ہوں گے۔ معمر افراد کو ان کے اپنے گھروں میں ہی محفوظ اور صحت مند رکھنے سے، یہ کیمپس صحت کے نظام پر دباؤ میں کمی کا باعث بنے گا جبکہ بزرگ افراد کو مختلف طرز ہائے زندگی اور صحت مندانہ سرگرمیاں بھی مہیا کی جائیں گی۔

ایک رجسٹر شدہ چیریٹی کی حیثیت سے GAVE کا مشن بزرگ افراد کے لیے اونٹاریو میں رہائشوں کے سنگین بحران سے نمٹنے اور انہیں آزادانہ رہائشی سہولیات اور طویل مدتی نگہداشت کی فراہمی ہے تاکہ متنوع ثقافتی، ورثے، مذہب اور دیگر سماجی سرگرمیوں کی مدد سے ان کے لیے ایک خوش باش، صحت مندانہ اور پراطمینان طرز زندگی کو فروغ دیا جائے۔

بزرگ افراد کے لیے ایک نگہداشتی کیمپس کے قیام کے لیے برامپٹن سٹی کونسل نے پہلی مرتبہ 26 فروری 2020 کو GAVE کو 50 سالہ مدت کے لیے زمین مہیا کرنے کی منظوری دی تھی۔

اونٹاریو کی منسٹری آف لانگ ٹرم کینر نے طویل مدتی نگہداشت تک رسائی میں اضافہ کرنے اور دالان میں صحت کی دیکھ بھال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے 15,000 نئے طویل مدتی نگہداشت کے بیڈوں کی گنجائش پیدا کر رہی ہے، جس میں 2023 میں ہدف کی تکمیل کے ساتھ مزید 7000 طویل مدتی نگہداشت والے بیڈ شامل کیے جائیں گے۔

اقتباسات

"سٹی آف برامپٹن اپنے بزرگ افراد کی ہر طرح کی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے، جنہوں نے کینیڈا میں اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسل کو آزادی اور بہتر زندگی دینے کے لیے اپنی جوانیاں یہاں پر قربان کی ہیں۔ گولڈ ایچ ولیج فار دی ایڈلڈری جیسی تنظیموں کی مدد سے، ہمارے بزرگ افراد اپنی زندگی کے سنہری دن پرسکون اور محفوظ طریقے سے گزار سکتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"بزرگ افراد کے لیے فلاور سٹی کمیونٹی کیمپس میں گولڈن ایچ ولیج فار دی ایڈلڈری کو یہ زمین لیز پر دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ سٹی آف برامپٹن ہماری کمیونٹی میں طویل مدتی نگہداشت اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لئے پرعزم ہے۔ مقامی ریجنل کونسلر اور پیل کا چیئر آف بیومن سروسز کی حیثیت سے، میں گولڈن ایچ ولیج کی جانب سے برامپٹن سے وابستگی کا خیرمقدم کرتا ہوں اور مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سٹی کونسل نے وارڈ 4 میں اس سستی رہائش کے ایک اہم منصوبے کو آگے بڑھانے کی منظوری دی ہے۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈ 3 اور 4؛ چیئر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن؛ چیئر، بیومن سروسز، ریجنل آف پیل

"نگہداشت کے اس کیمپس میں بزرگ افراد کو ایک ایسی جگہ میسر آئے گی جسے وہ اپنا گھر کہہ سکیں گے اور وہاں پر صحت مندانہ اور محفوظ زندگی گزار سکیں اور اس کی وجہ سے ہمارے صحت کے نظام سے دباؤ بھی کم ہو گا۔ اس وارڈ میں بزرگ افراد کے لیے 160 بیڈز پر مشتمل طویل مدتی نگہداشت کا جدید مرکز اور 140 سستی رہائشی یونٹس کا قیام وارڈ 4 میں ایک انتہائی خوش آئند اضافہ ہے، جو برامپٹن کے بزرگ افراد کو یقین دہانی کراتا ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی سستی رہائش موجود ہے جسے وہ اپنا گھر کہہ سکیں۔"

- جیف بومین، سٹی کونسلر، وارڈ 3 اور 4؛ سٹی آف برامپٹن

"یہ پروجیکٹ ہمارے شہر کے انتہائی کمزور رہائشیوں کی براہ راست معاونت کرتا ہے اور نگہداشتی سہولت گاہ کے اس کیمپس کے معاشرتی و معاشی اثرات کی وجہ سے سٹی آف برامپٹن میں تعمیرات، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور طویل مدتی نگہداشت سمیت دیگر کئی شعبوں میں ملازمتیں پیدا ہوں گی اور شہر بحالی کی جانب گامزن ہو گا۔ ہمیں اس اہم شراکت داری کے ساتھ آگے بڑھنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے، جو ہماری سینئر کمیونٹی کو ضروری مدد فراہم کرے گی۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹس

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca